

6543- کیا قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے جس میں یہ بیان ہو کہ اللہ تعالیٰ ابھی تک مخلوق بنا رہا ہے؟

سوال

کیا یہ صحیح ہے کہ قرآن کریم میں ایسی آیات ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی تک مخلوق کی پیدائش کر رہا ہے؟

پسندیدہ جواب

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے "الخالق" اور "المخلوق" بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿وہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے اور وجود بخشنے والا ہے صورت بنانے والا، اسی کے لئے (نہایت) اچھے اچھے نام ہیں، ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے﴾۔ الحشر (24)

اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے :

﴿یقیناً تیرا رب ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے﴾۔ الحجر (86)

اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے﴾۔ الزمر (62)

اور اللہ جل جلالہ کی صفات میں سے "المخلق" بھی ہے ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا وہ اللہ بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے جو کہ تمام عالم کا رب اور پروردگار ہے﴾۔ الاعراف (54)

اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں سے پیدا کرنا بھی ہے ،

﴿اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو﴾۔ الذاریات (49)

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ ہے :

﴿بیشک ہم نے انسان کو طے جلے نطفے سے امتحان کے لئے پیدا کیا اور اس کو مستند دیکھتا بنایا﴾۔ الدھر (2)

اور رب ذوالجلال کا فرمان ہے :

﴿اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے﴾۔ القصص (68)

اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر لحظہ اور وقت میں انسان اور حیوانات اور جمادات پیدا کرتا ہے، اور اسی میں بچوں اور چھوٹے جانوروں کی پیدائش بھی ہے اور قرآن کریم میں جس آیت میں بھی بشر کی پیدائش کا ذکر ہے وہ اس سوال کے جواب پر دلالت ہے۔

ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے :

(اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اس بات کی نفی نہیں کی کہ وہ چھ دن کے بات کچھ بھی پیدا نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے :

﴿وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ بناتا ہے﴾۔ الزمر (6)

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفہ کو ہم نے جما ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں والا جو کہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے﴾۔ المؤمنون (12-14)

اور یہ سب کچھ ان چھ دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں ہے، جب نصوص میں یہ بات وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چھ دنوں کے بعد بھی ہمیشہ کے لئے پیدا کر رہا ہے اور دنیا کے بنانے کے بعد ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے اور اسی طرح جنتیوں کے لئے نعمتیں اور جہنمیوں کے لئے عذاب پیدا کر رہا ہے جس کی کوئی انتہاء نہیں (الفصل فی الملل والنحل (34/3))

واللہ تعالیٰ اعلم۔